



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 17/2/2023

گورنر HOCHUL نے ریاست نیویارک میں ہنگامی مواصلات اور انٹر آپریبلٹی کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے \$62 ملین سے زیادہ امداد کا اعلان کیا ہے

ہنگامی مواصلات کے نظاموں کی پائیداری میں مضبوطی لاتے ہوئے تحفظ عامہ میں اضافہ کرنے کے لیے ہدف شدہ گرانٹس

بالائی ریاستی علاقوں میں 14 کاؤنٹیوں کو تحفظ عامہ کی فنڈنگ سے نوازا گیا ہے، جس کے تحت \$6 ملین فی کاؤنٹی تک فراہم کیے جائیں گے

گورنر Kathy Hochul نے آج اعلان ہے کہ ریاست بھر میں انٹر آپریبل مواصلات کی گرانٹ کے ہدف شدہ پروگرام کے ذریعے 14 کاؤنٹیز کو \$62 ملین سے زیادہ فنڈ دیا گیا ہے تاکہ مقامی اولین ردعمل کرنے والوں کے زیر استعمال، ہنگامی مواصلات اور انٹر آپریبلٹی کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنایا جا سکے۔ ریاست نیویارک کی ڈویژن برائے وطن کی سلامتی اور ہنگامی خدمات کے زیر انتظام، یہ پروگرام فنڈنگ فراہم کرتا ہے تاکہ بنیادی ڈھانچے کو بہتر اور جدید بنایا جائے، مواصلاتی نقائص کو دور کیا جائے، قومی انٹر آپریبلٹی چینلز کو نافذ کیا جائے، اور کاؤنٹیز اور نظاموں کے درمیان علاقائی رابطے کو بڑھانے کے ذریعے تحفظ عامہ کو بڑھایا جائے۔

"جب کوئی آفت نازل ہو، تو نیویارک کو تیار ہونا چاہیے۔ ہمارے ہنگامی مواصلاتی نظام کو جدید بنانے کے لیے، یہ گرانٹ فنڈنگ اہمیت کی حامل ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارے بہادر اولین ردعمل کرنے والوں کے پاس ایسے وسائل اور ڈیٹا موجود ہے جو ہنگامی صورت حال کے دوران کمیونٹی اور خود اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے انہیں درکار ہو،" گورنر Hochul نے کہا۔ "نیویارک کے شہریوں کو محفوظ رکھنا میری اولین ترجیح ہے اور بالائی ریاستی نیویارک میں تحفظ عامہ کو بہتر بنانے کے لیے، یہ پروگرام کلیدی مقام رکھتا ہے۔"

انٹر آپریبلٹی، ہنگامی حالات کے دوران اولین ردعمل کرنے والوں کو معلومات اور ڈیٹا کا فوری طور پر اشتراک کرنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ پوری ریاست میں انٹر آپریبل مواصلات کی گرانٹ (Statewide Interoperable Communications Grant, SICG) کا ہدف شدہ پروگرام، ایک غیر مسابقتی گرانٹ پروگرام ہے جو نیویارک کی تحفظ عامہ کی ایجنسیوں کے لیے لینڈ موبائل ریڈیو کے ذریعے انٹر آپریبلٹی کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ فنڈنگ ان اہل درخواست دہندگان میں تقسیم کی جاتی ہے جن کے پاس قومی انٹر آپریبلٹی چینلز پر، یا مشترکہ نظاموں کو بہتر بنانے کے لیے ناکافی کوریج یا بنیادی ڈھانچہ پایا جاتا ہے۔ ہر وصول کنندہ کے لیے زیادہ سے زیادہ دستیاب ایوارڈ کی رقم \$6 ملین ہے جس میں فی کاؤنٹی صرف ایک درخواست قبول کی جا رہی ہے۔ ایوارڈز جاری کرنے سے پہلے، DHSES نے درخواستوں کا جائزہ لیا تھا اور درخواست دہندگان کو درخواست کرنے پر تکنیکی معاونت فراہم کی تھی۔

ریاست نیویارک کی ڈویژن برائے وطن کی سلامتی و ایمرجنسی خدمات کی کمشنر Jackie Bray نے کہا، "تحفظ عامہ کے شراکت داروں کی فنڈنگ کرنا ہماری ایجنسی کے مشن کا بنیادی حصہ ہے۔ یہ گرانٹس بالائی علاقوں کی کاؤنٹیوں کی مدد کریں گی تاکہ وہ اپنے ہنگامی مواصلاتی نظام میں جدت آمیز تبدیلیاں کر سکیں۔ نیویارک کے اولین

ردعمل کرنے والوں کو اعلیٰ معیار کے ٹولز اور وسائل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہنگامی ردعمل کے دوران مواصلات مؤثر ہوں۔"

SICG 2022 کی ہدف شدہ گرانٹ، مقامی پروجیکٹس کو فنڈ فراہم کرے گی جو دارالحکومتی علاقے، مرکزی نیویارک اور سدرن ٹائر میں مشترکہ نظاموں کی توسیع اور ہڈسن ویلی اور فنگر لیکس میں مشترکہ ریڈیو چینلز کی توسیع کے ذریعے انٹراپریبلٹی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان اضافی پروجیکٹس سے تحفظ عامہ کے اہم مواصلاتی نظاموں کی پائیداری میں مضبوطی آئے گی۔

ایوارڈز حسب ذیل تقسیم کیے گئے ہیں:

1. کاؤنٹی	2. رقم
3. Albany	4. \$6,000,000
5. Allegany	6. \$6,000,000
7. Chemung	8. \$3,584,452
9. Columbia	10. \$4,558,183
11. Cortland	12. \$5,000,000
13. Jefferson	14. \$2,000,000
15. Montgomery	16. \$810,000
17. Onondaga	18. \$2,750,000
19. Orleans	20. \$2,990,000
21. Putnam	22. \$6,000,000
23. Schenectady	24. \$6,000,000
25. Schuyler	26. \$4,888,663
27. Steuben	28. \$5,846,500
29. Tioga	30. \$6,000,000
کل	\$62,427,798

وطن کی سلامتی اور ایمرجنسی کی خدمات کے ڈویژن کے متعلق

ڈویژن برائے ہوم لینڈ سیکورٹی اور ایمرجنسی سروسز، آفات اور دیگر ہنگامی حالات کو روکنے، ان سے بچاؤ کرنے، تیاری کرنے، سدباب کرنے، ان سے بحال ہونے اور کمی لانے کے لیے قیادت، رابطہ کاری اور مدد فراہم کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، [Facebook](https://www.facebook.com/dhse.ny) پر، [Twitter](https://twitter.com/dhse.ny) پر، DHSES کو تلاش کریں یا [dhse.ny.gov](https://www.dhse.ny.gov) ملاحظہ کریں۔

###

اضافی خبر یہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہے www.governor.ny.gov
ریاست نیو یارک | ایگزیکٹو چیمبر | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418